

بچے کے لیے کار کی تحفظاتی سیٹ

حقیقت: موٹر گاڑیوں کی ٹکر 1 سال سے زیادہ کی عمر والے بچوں کے موت اور سنگین چوٹوں کی بڑی وجہ ہے۔

حقیقت: اس ملک میں ہر دن پانچ سال سے کم عمر کا کوئی بے قابو بچہ ٹریفک کی ٹکر میں موت کا شکار ہوتا ہے۔

حقیقت: کار میں بچے کے لیے محفوظ ترین جگہ پچھلی سیٹ میں ہے، جس میں بچے کی تحفظاتی سیٹ یا بوسٹر سیٹ بکل کے ذریعہ لگی ہو۔

ٹیکساس کا قانون بیان کرتا ہے کہ

کوئی شخص ایسی صورت میں جرم کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ شخص کوئی پسینجر گاڑی چلاتا ہو، کسی ایسے بچے کو لے جاتا ہو جس کی عمر پانچ سال سے کم ہو اور اس کا قد 36 انچ سے کم ہو، اور وہ گاڑی چلاتے وقت تحفظاتی سیٹ سسٹم کے صانع کی ہدایات کے مطابق بچے کو بچہ پسینجر کے تحفظاتی سیٹ سسٹم میں محفوظ نہیں رکھتا ہو۔

"بچے کے لیے تحفظاتی سیٹ کے نظام" میں کار سیٹ اور بوسٹر سیٹ شامل ہے، جس میں اونچی پشت اور بغیر پشت والے بوسٹرز شامل ہیں۔

کوئی شخص ایسی صورت میں جرم کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ شخص کوئی پسینجر گاڑی چلاتا ہو جس میں سیفٹی بیلٹس لگے ہوں، اور ایسے بچے کو جس کی عمر 17 سال سے کم ہو اور جسے بچہ پسینجر کے تحفظاتی سیٹ سسٹم میں محفوظ رکھنے کی ضرورت نہ ہو، کو گاڑی میں سیفٹی بیلٹ لگائے بغیر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہو۔

ٹیکساس کے قانون کا خلاصہ

17 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو سیفٹی بیلٹ لگانا چاہیے یا بچے کی تحفظاتی سیٹ میں محفوظ ہونا چاہیے، خواہ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوں یا پچھلی سیٹ پر۔

5 سال سے کم عمر کے اور 36 انچ سے کم اونچائی والے بچے لازمی طور پر بچے کی تحفظاتی سیٹ میں بیٹھیں گے۔ 36 انچ سے زیادہ لمبے اور کم از کم 5 سال کی عمر والے لیکن 17 سال سے کم عمر کے بچے لازمی طور پر سیفٹی بیلٹ لگائیں گے۔

سب سے بہتر تحفظاتی سیٹ جسے والدین / سرپرست استعمال کر سکتے ہیں:

- (1) ایسی سیٹ ہے جو ان کی کار میں فٹ ہو جائے
- (2) استعمال میں آسان ہو
- (3) ان کے بچے کی اونچائی اور وزن کے لیے مناسب ہو

مجھے بچے کے لیے کس قسم کے کار کی تحفظاتی سیٹ کا استعمال کرنا چاہیے؟

اگر آپ کا بچہ:

- ♦ **ایک سال سے کم عمر کا اور 20 پونڈ سے کم وزن کا ہے تو پیچھے کی جانب رخ والی بچوں کی کارسیٹ کا استعمال کریں۔** پیچھے کی طرف رخ والی بچوں کی کارسیٹ کو کبھی بھی ایسی کار میں آگے والی سیٹ پر نہیں لگانا چاہیے جس میں ایر بیگز لگے ہوں۔ چھوٹے بچوں کی سیٹ 45 ڈگری کے زاویے پر یا سیٹ پر صراحت کردہ زاویے پر لگائی جانی چاہیے۔ اس سے بچے کے سر کو آگے کی جانب جھکنے سے بچانے اور ہوا کے راستے کو کائنے میں مدد ملتی ہے۔
- ♦ **ایک سال سے کم عمر کا اور 30 پونڈ سے کم وزن کا ہے تو، پیچھے کی جانب رخ والی بچوں کی تغیر پذیر کارسیٹ کا استعمال کریں۔** پیچھے کی طرف رخ والی تغیر پذیر کارسیٹ کو کبھی بھی ایسی کار میں آگے والی سیٹ پر نہیں لگانا چاہیے جس میں ایر بیگز لگے ہوں۔ تغیر پذیر کارسیٹ 45 ڈگری کے زاویے پر یا سیٹ پر صراحت کردہ زاویے پر لگائی جانی چاہیے۔ اس سے بچے کے سر کو آگے کی جانب جھکنے سے بچانے اور ہوا کے راستے کو کائنے میں مدد ملتی ہے۔
- ♦ **کم از کم ایک سال کی عمر اور 20 سے 40 پونڈ وزن کا ہو تو تغیر پذیر کارسیٹ کا استعمال کریں۔** آپ سیٹ کا رخ آگے کی جانب کر سکتے ہیں۔
- ♦ **کم از کم ایک سال کی عمر اور 30 سے 40 پونڈ وزن کا ہو تو بوسٹر سیٹ کا استعمال کریں۔**
- ♦ **40 پونڈ سے زیادہ وزن کا اور 4'9" سے کم اونچا ہو تو، آپ کے بچے کو بوسٹر سیٹ استعمال کرنی چاہیے لیکن ہارنیس اسٹریپس کو الگ کر دیں۔** بوسٹر سیٹ کا استعمال لازمی طور پر گود/ کندھے والی سیٹ بیلٹ کے ساتھ کیا جانا چاہیے جب تک کہ بچہ لگ بھگ 4'9" کا نہ ہو۔
- ♦ **4'9" سے زیادہ لمبا، یہ ضروری ہے کہ آپ کا بچہ گود/ کندھے والی سیٹ بیلٹ کا استعمال کرے۔**

13 سال سے کم عمر کے بچے کو کبھی بھی فعال پسینج ایر بیگز والی گاڑی میں آگے والی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

- ♦ پانچ میں سے چار کارسیٹوں کو غلط طریقے سے نصب اور/یا استعمال کیا جاتا ہے۔
- ♦ کیا آپ کا بچہ بھی ان میں سے ایک ہے؟
- ♦ آپ یہ یقینی بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ کارسیٹ کو درست طریقے سے لگائیں؟

کار کی تحفظاتی سیٹ کی مفت جانچیں

- ♦ آج ہی مفت کار کی تحفظاتی سیٹ کی جانچ کے لیے اپائنٹمنٹ لیں، جس کی کفالت ٹیکساس چلڈرنز چائلڈ ہونڈ انجری پریونشن سنٹر اور محفوظ بچوں کے لیے گریٹر ہیوسٹن کولیشن کرتی ہے۔
- ♦ وسیع تربیوسٹن کے علاقہ میں کار کی تحفظاتی سیٹ کی مفت جانچیں فراہم کرنے والے مقامات کی فہرست کے لیے www.texaschildrenshospital.org/carecenters/InjuryPrevention/Childsafety.aspx ملاحظہ کریں، یا؛
- ♦ ماری ہوجیز (Mari Hodges)، ٹیکساس چلڈرنز ہاسپٹل سے 832-828-1314 پر رابطہ کریں

بچے کی کار کی تحفظاتی سیٹ کے بارے میں مزید قیمتی معلومات جاننے کے لیے براہ کرم، بچپن کی چوٹ سے بچاؤ کیلئے ٹیکساس مرکز برائے طفلان کے اس ویب صفحہ سے رجوع کریں

www.texaschildrenshospital.org/Parents/TipsArticles/SubcategoryDisplay.aspx?sid=42